

10923 - قتل عمد اکبرالکبائر میں سے سے ہے

سوال

میں قتل کی جرم میں شریک تھا ، لیکن جرم کی سزا دینے کے لیے مجھے نہیں پکڑا جاسکا ، میں اپنے گناہ کاکفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں ، لہذا کیا پولیس کے سپرد کیے بغیر اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرلے گا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اگر مقتول مومن ہو تو قتل عمد اکبرالکبائر میں شامل ہوتا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل فرمان ہے :

اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے النساء (93) -

اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

(جب تک آدمی حرام خون نہ بہائے اس وقت تک وہ اپنے دین میں وسعت رکھتا ہے) -

اور جب آپ نے قتل عمد کیا ہو تو آپ کے اس قتل کے ساتھ تین امور متعلق ہوتے ہیں :

ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق ، اور دوسرا مقتول کا حق ، اور تیسرا مقتول کے اولیاء کا حق -

جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح اور صدق دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

میری جانب سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے ، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے الزمر (53) -

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

اور رہا مقتول کا حق وہ میری مراد مقتول ہے نہ کہ زندہ کہ آپ اسے پاسکیں ، تو اس کا حق قیامت تک باقی رہے گا یعنی اس مقتول کا آپ سے قصاص قیامت کے روز لیا جائے گا ، لیکن میری گزارش ہے کہ جب آپ کی توبہ صحیح ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوگی ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقتول کو اپنے فضل و کرم سے راضی کر دے گا اور آپ اس سے بری ہو جائیں گے ۔

اور اولیاء کا حق جو کہ تیسرا حق ہے یہ آپ اس سے اس وقت تک بری نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اولیاء کے سپرد نہیں کر دیتے ، تو اس بنا پر واجب اور ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو مقتول کے اولیاء کے سپرد کر دینگے اور انہیں کہیں کہ اسے قتل کرنے والے آپ ہیں اور انہیں اختیار ہے کہ جب قصاص کی شروط پوری ہوں تو وہ قصاص لے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو وہ دیت لے لیں اور اگر چاہے تو وہ ویسے ہی معاف کر دیں ۔